

[پرتحفون کالین دین کرنا] [Birthday]

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیا سالگرہ [Birthday] کے موقع پر سادہ ساکھانادینا اور تحفون کا لین دین جائز ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک Western culture ہے لہذا سالگرہ کرنا حرام ہے

سائلہ Selina: فرام انگلینڈ

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بعون الملك الوهاب اللهم هداية الحق والصواب

اچھے اور جائز افعال کے ساتھ سالگرہ منانے میں کوئی حرج نہیں اور نہ ہی اس موقع پر تحفون کے لین دین میں کوئی مضائقہ بشرطیکہ اس میں اور کوئی مانع شرعی نہ پایا جائے۔ آج کل مختلف Birthday پارٹیز میں عجنبی مردوں اور عورتوں کا میل جول اور موسیقی کی دھنون میں بسا ماحول اور دیگر کاموں میں شریعت سے عدول، اسے تو ہر ذمی عقل ناجائز ہی کہے گا۔

ایسے موقع پر اگر کچھ نہ کچھ قرآن پاک پڑھ کر ایصال ثواب کی ترکیب ہو اور نیکیوں بھری لمبی عمر کی دعائیں کی جائیں اور کھانا وغیرہ اپنی فیملیوں میں تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ غرباء میں بھی تقسیم کیا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔

والله تعالى اعلم و رسوله اعلم صلی الله عليه وسلم

کتبہ ابوالحسن محمد قاسم ضیاء قادری

QUESTION:

What do the scholars and muftis of the mighty Shari'ah say regarding this matter: is it impermissible to distribute food and exchange gifts on the occasion of one's birthday? Some people say it is a part of Western culture, and therefore, celebrating birthdays is harām.

ANSWER:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هَدِيَّةُ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

There is no harm in celebrating one's birthday by performing good and permissible actions, and neither is there any blame in exchanging gifts, with the condition that no unlawful actions are not found in it. Nowadays, in various birthdays parties, there is free mixing of men and women, music and other acts of transgression to be found; anyone possessing intellect will consider this impermissible.

On such an occasion, it is better that one recite something from the Qurān and supplicate for the conveyance of the reward [īsāl al-thawāb], there should be supplication for a long life which is full of good deeds, and alongside distributing food amongst family, one should also feed others.

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
Answered by Mufti Qasim Zia al-Qādrī